

گھر کی ملکہ کون - ساس یا بہو

By Irshad Mahmood - Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

اکثر بہویں چاہتی ہیں کہ پہلے روز سے ہی گھر کی ملکہ بن جائیں اور اس بات سے بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی کسی کی ساس بننا ہوتا ہے۔ انکے اپنے بچے بھی پھر وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ملکہ کی کرسی کی کھینچا تانی میں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس کا بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور انکی پڑھائی کا بیڑا غرق ہوجاتا ہے۔

آج کے شدید مہنگائی کے دور میں اکثر مردوں کا بیوی کو الگ گھر لیکر دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور ہمیں تعلیم دینا ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور اگر انمیں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کریں۔ دراصل جب یہ بہت بوڑھے ہو جائیں تو یہ انکا حق ہے کہ وہ بادشاہ اور ملکہ بن کر رہیں۔ گلی کے کتوں کے آگے بھی لوگ روٹی ڈال دیتے ہیں مگر یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے نہ جانے ہماری کامیابی کے کتنے خواب دیکھے ہونگے اور کیا کیا جتن کیے ہونگے یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم خود اپنے بچوں کے ماں یا باپ بنتے ہیں۔

کبھی بھی کسی کا تحفہ نہ لوٹائیں اس سے انکی دلشکنی ہوتی ہے اور خاص کر اپنے والدین کے تحفے کبھی بھی واپس نہ کریں خواہ وہ ادنا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کا تحفہ کوئی آپ کو لوٹائے تو آپ کو کیسا لگے گا۔

بہویں صبر سے کام لیں اور ساس سے انکی ملکہ کی گدی نہ چھینیں، انشاء اللہ کل کو انکا بھی وقت آگیا اور وہ بھی گھر کی ملکہ بنیں گی۔

ایسی عورت اللہ کی پکڑ سے ڈرے۔ عین یہ بھی ممکن ہے کہ اسکے بھی بیٹے ہوں اور اسکی بھی بہو آئے اور پھر یہ تاریخ دہرائے۔ یا اللہ کی کوئی اور پکڑ ہو اور پیروں تلے زمین کھسکتی نظر آئے اور کوئی پرسان حال نہ ہو کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔

والدین اپنی بیٹیوں کو قرآن سے نصیحت کریں اس سے پیشتر کہ اللہ کی گرفت آجائے۔ بہائی بھی اپنی بہنوں کو قرآن سے نصیحت کریں۔

ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی بہو کبھی بیٹی بن سکتی ہے۔ سب لوگ میانہ روی اختیار کریں مل کر خوشی خوشی رہیں اور ثوابداریں حاصل کریں۔

آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ثواب داریں حاصل کریں۔ شکریہ۔

خواتین اپنے شوہر سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہر کام کرسکیں گے۔ اگر وہ گھر کے سارے کام کرنے لگیں تو یقیناً انکے باہر کے کام میں فرق پڑے گا جس سے انکی ترقی کے امکانات بہت کم ہوجاتے ہیں اور کبھی تو ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ خواتین ملکہ برتانیہ بننے کی کوشش نہ کریں۔

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://www.global-right-path.com>

Email to global-right-path+subscribe@googlegroups.com to subscribe